



JUZ 10 – PART 1

SURAH AL-ANFAL 41-75

ROOT WORDS

Translation	ROOT WORD	WORD	AYAT
غنیمتوں میں پاؤ تم	غ ن م	غَنِمْتُمْ	41
کنارے پر تھے	ع د و	بِالْعُدْوَةِ	42
دور کے	ق ص و	الْفُصُوءِ	
البتہ ہمت ہار جاتے تم	ف ش ل	لَفَّسْتُمْ	43
اور وہ تھوڑا دکھا رہا تھا تمہیں	ق ل ل	يُقَلِّلُكُمْ	44
اتراتے ہوئے	ب ط ر	بَطْرًا	47
گھیرنے والا ہے	ح و ط	مُحِيطٌ	
ہمسایہ / حمایتی ہوں	ج و ر	جَارٌ	48
بہت قوت والا ہے	ق و و	قَوِيٌّ	52
تبدیل کرنے والا	غ ی ر	مُعَيِّرًا	53
وہ توڑ دیتے ہیں	ن ق ض	يَنْقُضُونَ	56
تو مار بھگائیں	ش ر د	فَشَّرِدُ	57
آپ واقعی خوف رکھتے ہیں	خ و ف	تَخَافَنَّ	58
وہ مائل ہوں	ج ن ح	جَنَحُوا	61
اور اس نے الفت ڈال	ا ل ف	وَأَلَّفَ	63
رغبت دلائیے	ح ر ض	حَرِّضِ	65
دوسو پر	م ی أ	مِائَتَيْنِ	
ایک ہزار پر	أ ل ف	أَلْفًا	
وہ اچھی طرح خون بہا دے	ث خ ن	يُثَخِّنَ	67
البتہ پہنچتا تمہیں	م س س	لَمَسَّكُمْ	68

قیدیوں	ا س ر	الْأَسْرَى	70
پناہ دی	ا و ی	آوَا	72
SURAH AT-TAWBAH 1-33			
عاجز کرنے والے	ع ج ز	مُعْجِزَى	2
توبہ کر لو تم	ت و ب	تُبْتُمْ	3
انہوں نے کمی کی تم سے	ن ق ص	يَنْقُصُوكُمْ	4
گزر جائیں	س ل خ	انْسَلَخَ	5
اور گھیرا نہیں	ح ص ر	وَاحْصُرُوهُمْ	
گھات پر	ر ص د	مَرَصِدٍ	
تو پناہ دے دیجیے اسے	ج و ر	فَاجِرَهُ	6
اسکے امن کی جگہ	ا م ن	مَأْمَنَهُ	
نہ وہ لحاظ کریں گے	ر ق ب	لَا يَرْقُبُوا	8
کسی قرابت کا	ا ل ل	إِلَّا	
کسی معاہدے کا	ذ م م	نِمَّةً	
اور انکار کرتے ہیں	أ ب ی	وَتَأْبَى	
وہ توڑ دیں	ن ک ث	نَكثُوا	12
اماموں سے	ا م م	أئِمَّةً	
اپنی قسمیں	ی م ن	أَيْمَانَهُمْ	13
اور انہوں نے ارادہ کیا	ہ م م	وَهُمُوا	
انہوں نے ابتداء کی تھی تم سے	ب د ا	بَدَّءُوكُمْ	
اور وہ سوا کرے گا انہیں	خ ز ی	وَيُخْزِيهِمْ	14
تم چھوڑ دیئے جاؤ گے	ت ر ک	تُتْرَكُوا	16

کوئی دلی دوست	و ل ج	وَلِيَجَةً	
وہ آباد کریں	ع م ر	يَعْمُرُوا	17
پانی پلانا	س ق ی	سِقَايَةَ	19
کمایا تم نے جنہیں	ق ر ف	اَقْتَرَفْتُمُوهَا	24
اسکے مند ہونے سے	ک س د	كَسَادَهَا	
تو انتظار کرو	ر ب ص	فَتَرَبَّصُوا	
جگہوں میں	و ط ن	مَوَاطِنَ	25
اس نے فائدہ دیا	غ ن ی	تَغْنِ	
اور تنگ ہو گئی	ض ی ق	وَضَاقَتْ	
پھر گئے تم	و ل ی	وَلَّيْتُمْ	
ایسے لشکر	ج ن د	جُنُودًا	26
اپنے سال	ع و م	عَامِهِمْ	28
وہ دے دیں	ع ط و	يُعْطُوا	29
ذلیل / چھوٹے ہو کر	ص غ ر	صَاغِرُونَ	
وہ نقل کرتے ہیں	ض ہ ی	يُضَاهِنُونَ	30
وہ پھیرے جاتے ہیں	أ ف ك	يُؤْفَكُونَ	
اپنے علماء کو	ح ب ر	أَحْبَارَهُمْ	31
(مختلف) رب	ر ب ب	أَرْبَابًا	
وہ بھادیں	ط ف أ	يُطْفِنُوا	32